

☆☆☆☆☆ الفاتحة ☆☆☆☆☆

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. ﴿1/70﴾

☆ الضَّالِّينَ. (6) مادہ. ض ل ل (191) خاص۔ گمراہ ہونے والے (The Astrayed, The wretched)

☆ ض ل ل۔ مادے سے بننے والے دیگر الفاظ۔

ضَلَّ	26	17/15	ضَلَّ	وہ گمراہ ہوا	ضَلَّ	سے ماضی
ضَلَّتْ	2	34/50	ضَلَّ + ث	میں گمراہ ہوا		
ضَلَّلْنَا	1	32/10	ضَلَّ + نَا	ہم گمراہ ہوئے		
ضَلُّوا	12	17/48	ضَلَّ + وَا	وہ گمراہ ہوئے		
أَضِلُّ	1	34/50	أَضِلُّ	میں گمراہ ہوتا ہوں		
تَضِلُّ	1	2/282	تَضِلُّ	وہ گمراہ ہوتی ہے		
تَضَلُّوا	2	4/176	تَضَلُّوا	تم گمراہ ہوتے ہو		
يَضِلُّ	6	6/117	يَضِلُّ	وہ گمراہ ہوتا ہے / ہوگا		
يَضِلُّونَ	1	38/26	يَضِلُّونَ	وہ گمراہ ہوتے ہیں / ہوں گے		
أَضِلُّ	6	20/79	أَضِلُّ	اس نے گمراہ کیا		
أَضَلَّانَا	1	41/29	أَضَلَّ + نَا	ان دونوں نے گمراہ کیا۔ ہم کو		
أَضَلَّتُمْ	1	25/17	أَضَلَّ + تُمْ	تم نے گمراہ کیا		
أَضَلَّنَا	1	14/36	أَضَلَّ + نَا	انہوں نے گمراہ کیا		
أَضَلَّنَا	1	26/99	أَضَلَّ + نَا	اس نے گمراہ کیا۔ ہم کو		
أَضَلَّنِي	1	25/29	أَضَلَّ + نِي	اس نے گمراہ کیا۔ مجھ کو		
أَضَلَّهُ	1	45/23	أَضَلَّ + هُ	اس نے گمراہ کیا۔ اس کو		
أَضَلَّهُمْ	1	20/85	أَضَلَّ + هُمْ	اس نے گمراہ کیا۔ ان کو		
أَضَلُّوا	2	5/77	أَضَلَّ + وَا	انہوں نے گمراہ کیا		
أَضَلُّونَا	2	7/38	أَضَلَّ + وَنَا	انہوں نے گمراہ کیا۔ ہم کو		
لَأَضِلَّنَّهُمْ	1	4/199	لَأَضِلَّنَّهُمْ	اس لئے۔ میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو		
تَضِلُّ	1	7/155	تَضِلُّ	تو گمراہ کرتا ہے		
فَيَضِلُّكَ	1	38/26	فَيَضِلُّكَ	پس۔ وہ گمراہ کرے گا۔ تجھ کو		
يُضِلُّ	12	4/88	يُضِلُّ	وہ گمراہ کرتا ہے		
يُضِلُّهُ	1	6/39	يُضِلُّهُ	وہ گمراہ کرتا ہے۔ اس کو		

یُضِلُّ	17	2/26	یُ+ضِلُّ	وہ گمراہ کرتا ہے
يُضِلُّوا	3	10/88	یُ+ضِلُّ+وا	وہ گمراہ کرتے ہیں
يُضِلُّهُ	12	6/125	یُ+ضِلُّ+هُ	وہ گمراہ کرتا ہے۔ اس کو
يُضِلُّهُمْ	1	4/60	یُ+ضِلُّ+هُمْ	وہ گمراہ کرتا ہے۔ ان کو
يُضِلُّنَا	1	24/42	یُ+ضِلُّ+نَا	وہ گمراہ کرتا ہے۔ ہم کو
يُضِلُّوكَ	2	6/116	یُ+ضِلُّ+وَك	وہ گمراہ کرتے ہیں۔ تجھ کو
يُضِلُّونَ	3	4/113	یُ+ضِلُّ+ونَ	وہ گمراہ کرتے ہیں
يُضِلُّونَكُمْ	1	3/69	یُ+ضِلُّ+ونَ+كُمْ	وہ گمراہ کرتے ہیں۔ تم کو
يُضِلُّونَهُمْ	1	16/25	یُ+ضِلُّ+ونَ+هُمْ	وہ گمراہ کرتے ہیں۔ ان کو
يُضِلُّ	1	9/37	یُ+ضِلُّ	وہ گمراہ کئے جائیں گے
ضَالًّا	1	93/7	ضَالٌّ+لَا	گمراہ
الضَّالُّونَ	3	15/56	ال+ضَّالُّونَ	گمراہ ہونے والے
الضَّالِّينَ	8	2/197	ال+ضَّالُّونَ+ينَ	خاص۔ گمراہ ہونے والے
أَضَلُّ	9	7/9	أُ+ضَلُّ	گمراہ
تَضَلَّلِي (تف)	1	105/2	تَ+ضَلَّلِي	گمراہ کرنا
مُضِلُّ	1	28/15	مُ+ضِلُّ	گمراہ کیا ہوا
الْمُضِلِّينَ	1	18/51	الْمُ+ضِلُّونَ+ينَ	خاص۔ گمراہ کئے ہوئے
ضَالًّا. ضَالًّا	31	3/164	ضَالًّا	گمراہی
ضَالًّا (ض)	6	71/24	ضَالًّا+ا	گمراہی
ضَالِكًا	1	12/95	ضَالًّا+ك	تیری گمراہی
الضَّلَالَةُ	7	2/16	ال+ضَّلَالَةُ	خاص گمراہی
ضَالَّتِيهِمْ	2	27/81	ضَالًّا+تِ+هِمْ	اُن کی گمراہی

☆ - کون لوگ جو مغضوب ہوئے مگر بھٹکے نہیں؟ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ)

انسان انجانے میں خطا کر کے اللہ کے غضب کو اپنے اوپر حلال کر لیتا ہے۔ لیکن جو نبی اُسے احساس ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق توبہ کی کٹھالی سے گزرتا ہے تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے اور وہ پھر ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کی بدولت اُن لوگوں کے ہم رکاب ہو جاتا ہے جن کا اللہ نے اوپر ذکر کیا ہے۔

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

کھاؤ اُن طیبات میں سے جو ہم نے تمہارا رزق بنائی ہیں۔ تم اس میں طغیانی (سرکشی) مت کرو، کہیں تم پر میرا غضب حلال نہ ہو جائے۔ اور جس پر میرا غضب حلال ہو گیا وہ تباہ

ہوا۔

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ○ (82-81/20)

بے شک میں اُس کے لئے غفار ہوں جو توبہ کرے، اور اعتبار کرے اور عمل صالح کرے۔ پھر وہ ہدایت پاتا ہے۔

☆ - الرسول کے سامنے اعتراف گناہ (Confession)

وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○ (9/102)

اور دیگر وہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں (شرمندہ ہیں) کہ جن برائیوں کا اختلاط انہوں نے عمل صالح میں کر لیا ہے

اور (تذبذب) میں کہ شاید اللہ اُن کی توبہ قبول کرے۔ بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○ (9/103)

اُن کے اموال سے صدقہ لے کر اُن کی طہارت کر اور اس سے اُن کا تزکیہ کر، اور صلِّ عَلَيْهِمْ (اُن کے اوپر صلی) کر۔

بے شک تیری صلوٰۃ اُن کے لئے باعث سکون ہے۔ اور اللہ سننے والا ہے۔

☆ - مغضوب ہوئے پھر ایمان لے آئے۔

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ○ (10/98)

قوم یونس کے علاوہ کوئی اور بستی ایمان کیوں نہیں لائی؟ تاکہ اُن کا ایمان اُن کو نفع پہنچاتا۔ جب وہ (قوم یونس) ایمان لائے تو ہم نے اُن پر سے حیاتِ دنیا کی رسوائی کا عذاب

دور کر دیا اور ایک مقررہ وقت تک ہم نے اُن کے لئے متاع دی۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ○ (10/99)

اور اگر تیرے رب کی بشارت ہوتی تو زمین پر موجود سب ایمان لے آتے۔ کیا تو لوگوں پر زبردستی کرے گا تاکہ وہ مؤمنین ہو جائیں۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ○ (10/100)

ایک نفس کے لئے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اذن کے بغیر ایمان لائے۔ جو عقل نہیں رکھتا اللہ اُس کے لئے الرجس بناتا ہے۔

☆ - عذاب آزمائش۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ

ہم یقیناً تم کسی شے سے آزمائیں گے! یعنی خوف، بھوک، اموال، اور جانوں اور پھلوں میں نقصان، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔

○ الَّذِينَ إِذَا أَصَابْتُم مَّصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ○ (2/155-156)

وہ لوگ جب اُن پر مصیبتوں میں سے ایک مصیبت پڑتی ہے، تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہم نے اُس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ○

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ○ وَلَا يَسْتَشْنُونَ ○

بے شک ہم نے اُن کو آزمایا جیسے ہم نے اصحاب الجنت کو آزمایا۔ جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح ضرور پھل توڑ لیں گے۔ اور استشنا کرنے والوں میں نہ ہوئے۔

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ○ (68/17-19)

پس طواف کیا اُس (الجنت) پر تیرے رب کی طرف سے طواف کرنے والی نے اور وہ سو رہے تھے۔

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○ (68/33)

عذاب ایسا ہی ہوتا ہے! اگر انہیں علم ہوتا کہ عذابِ آخرت اس سے بھی اکبر ہے۔

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ○ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوْهُمُونَ ○

بولے اے ہمارے رب سبحان ہے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اس سے پہلے وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے۔

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ○ عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ○ (68/29-32)

